



Attempt ..... questions

- 1 A line intersecting a circle is called: 1 دائرے کو قطع کرنے والی ایک لائن کہلاتی ہے:
- a)Tangent                      b)Secant                      a) مماس                      b) قاطع خط
- c)Chord                      d)Diameter                      c) وتر                      d) قطر
- 2 A tangent line touches the circle at: 2 مماس دائرے کو مس کرتا ہے۔
- a) Three points                      b) Two point                      a) تین نقاط پر                      b) دو نقاط پر
- c)One point                      d) No point at all                      c) ایک نقطے پر                      d) کسی نقطہ پر نہیں
- 3 The tangent and radius of the circle at the point of contact are..... 3 دائرے کا مماس اور رداس ایک دوسرے پر ہوتے ہیں:
- a)Parallel                      b)Not perpendicular                      a) متوازی                      b) عمود نہیں
- c)Perpendicular                      d)None of these                      c) عمود                      d) ان میں سے کوئی نہیں
- 4 In the adjacent figure of the circle, the line PTQ is named as 4 ملحقہ شکل میں PTQ کو کہا جاتا ہے۔
- 


- a)An arc                      b)A chord                      a) ایک قوس                      b) ایک وتر
- c) A tangent                      d) A secant                      c) ایک مماس                      d) ایک قاطع خط
- 5 The semi-circumference of a circle subtend a central angle. 5 دائرے کے نصف محیط کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔
- a)90°                      b) 180°                      a) 90°                      b) 180°
- c) 270°                      d) 360°                      c) 270°                      d) 360°
- 6 Out of two congruent arcs of a circle if one makes a central angle of 30° then other arc will make central angle of 6 کسی دائرے کی دو برابر قوسیں میں سے ایک 30° کا مرکزی زاویہ بناتی ہے تو دوسری کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔
- a) 15°                      b) 30°                      a) 15°                      b) 30°
- c) 45°                      d) 60°                      c) 45°                      d) 60°
- 7 A pair of chords of a circle which make congruent central angles is: 7 دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں ہوتے ہیں۔
- a)congruent                      b)Incongruent                      a) متماثل                      b) غیر متماثل
- c)Parallel                      d)overlapping                      c) متوازی                      d) متقاطع
- 8 The arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always: 8 ایک دائرے میں دو غیر متماثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسیں ہوتی ہیں۔
- a)Congruent                      b)Incongruent                      a) متماثل                      b) غیر متماثل
- c)Parallel                      c)Perpendicular                      c) متوازی                      d) عمود